

وہ چیزیں جو Every Student Succeeds Act

(ہر طالب علم کے کامیابی سے ہمکنار ہونے سے متعلق ایکٹ) کے مدنظر نیو یارک اسٹیٹ کے منصوبے کے بارے میں تمام والدین کو جاننا

5

ESSA کیا ہے؟

Every Student Succeeds Act (ESSA) ایک وفاقی قانون ہے جو بتاتا ہے کہ ریاستیں سرکاری اسکولوں کا تعاون کرنے کے لیے وفاقی پیسے کو کس طرح استعمال کر سکتی ہیں۔ ستمبر 2017 میں، نیو یارک اسٹیٹ نے ESSA کے تحت نیو یارک کو تقریباً \$1.6 بلین سالانہ موصول ہونے کے مدنظر اپنا منصوبہ جمع کروایا۔

اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟

نیو یارک اسٹیٹ یہ یقینی بنانے کا پابند عہد ہے کہ سبھی طلبہ اسکول میں کامیاب ہوں اور پھلیں پھولیں چاہے وہ جو بھی ہوں، جہاں بھی رہتے ہوں، جہاں بھی اسکول میں جاتے ہیں یا جہاں سے بھی آئے ہوں۔ موسم خزاں 2016 کے بعد سے، نیو یارک اسٹیٹ نے ایک ایسا منصوبہ تیار کرنے کے لیے تاثرات طلب کیے ہیں جو تمام طلبہ کے لیے برابری، رسائی اور موقع کو آگے بڑھاتا ہو۔

والدین کو کیا جاننے کی ضرورت ہے؟

منصوبے میں والدین اور اہل خانہ کے لیے شامل اہم عناصر کو ذیل میں نمایاں کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو منصوبے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہ لنک ملاحظہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں:
<http://www.p12.nysed.gov/accountability/essa.html>

1 نیو یارک اسٹیٹ سبھی کے لیے ایک ہمہ جہت تعلیم کی قدر کرتا ہے۔

والدین اور اہل خانہ کو یہ جاننا چاہیے کہ صرف علمی مضامین میں ہی نہیں، بلکہ بہت سارے شعبوں میں ان کے بچہ کا اسکول کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔

آئندہ کے اشاریے:

اسکول اور اضلاع کی پیمائش ہر سال ان اشاریوں کو سامنے رکھ کر کی جائے گی:

- اسکول سے باہر معطلیاں (2018-19 کے نتائج سے شروع کر کے)
- ہائی اسکول کے لیے تیار ہونا (ڈیٹا دستیاب ہو جانے پر)
- "آموزشی ماحول" کے اشاریے (جیسے، کلاس سائز، آرٹس کی کلاسوں تک رسائی)

سبھی اسکولوں کے لیے

ہائی اسکولوں کے لیے

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • فنون انگریزی زبان • ریاضی • سائنس • انگریزی کی آموزش میں پیشرفت (یہ زبان نہ بولنے والوں کے لیے) • دیرینہ غیر حاضری پسندی (+18 دنوں تک غیر حاضری، استثناء کے ساتھ) | <ul style="list-style-type: none"> • سماجی علوم • سند یافتگی کی شرح • کالج، کیریئر، اور تمدنی آمادگی کے اشاریے: ایڈوانسڈ کورس ورک لینا، تکنیکی تعلیم کے سرٹیفکیٹس حاصل کرنا، وغیرہ |
|---|---|

2 نیو یارک اسٹیٹ امتحان دینے کا وقت کم کرنا اور امتحان دینے کے تجربے کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔

2



95%



نیو یارک اسٹیٹ ریاضی اور سائنس کے امتحانات کا مزید زبانوں میں ترجمہ کرتا رہے گا، اور فنڈ دستیاب ہونے پر، طلبہ کی آبائی زبان میں فنون زبان کا امتحان تیار کرے گا۔

وفاقی قانون کا تقاضا ہے کہ ہر زیر امتحان گریڈ اور ضمنی گروپ کے 95% طلبہ مناسب امتحانات دیں۔ شرکت کو بڑھانے کے لیے نیو یارک اسٹیٹ والدین، اسکولوں اور اضلاع کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔

ریاست ہذا طالب علم کی جانکاری کی تشخیص کرنے کے لیے ایسے نئے طریقے آزمانے کی کوشش کرے گی جن کے ذریعہ طلبہ سے کارکردگی والے کام مکمل کر کے پیش کرنے کو کہا جا سکے۔

گریڈز 3-8 میں انگریزی اور ریاضی میں سے ہر ایک کے امتحانات کم کر کے 2018 میں دو دن تک کر دیے جائیں گے۔

نیو یارک اسٹیٹ کامیابی کے لیے تیار ہونے اور یہ یقینی بنانے میں اساتذہ اور اسکول قائدین کی مدد کرے گا کہ تمام طلبہ کو ایک قابل ترین معلم تک رسائی حاصل ہے۔

3



نیو یارک اسٹیٹ کے پاس بہت سارے قابل ترین اساتذہ ہیں۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ سبھی اسکولوں کے پاس انہیں راغب کرنے اور انہیں برقرار رکھنے کی اہلیت ہو۔



ریاست ہذا اس بابت تبدیلیوں پر نگاہ رکھے گی کہ اساتذہ اور قائدین کس طرح سے تیار ہیں تاکہ اول دن کے لیے ان کے تیار ہونے کو یقینی بنایا جائے۔

نیو یارک اسٹیٹ ایسے وقت میں اضافی مدد کے لیے والدین پر انحصار کرتا ہے جب ان کے بچے کے اسکول کی اصلاح کے لیے نشاندہی کی جاتی ہے۔

4



... اور آپ کو اس بابت اپنی رائے دینی ہوگی کہ آپ کے اسکول کو جو وفاقی پیسے ملتے ہیں اس کا بعض حصہ وہ اصلاح لانے پر کس طرح خرچ کرتا ہے۔



... پھر اسے والدین، اساتذہ اور طلبہ سے یہ پوچھنا ہوگا کہ ان کے خیال میں اسکول کس طرح بہتری لا سکتا ہے...



اگر آپ کے بچے کے اسکول کی نشاندہی کم کارکردگی دکھانے والے کے بطور ہوتی ہے...

نیو یارک اسٹیٹ والدین کو ان کے بچوں کے اسکول کی ایک مزید مکمل تصویر فراہم کرے گا۔

5



والدین کو نئی رپورٹوں کے ذریعے یہ معلوم ہوگا کہ ہر اسکول فی طالب علم کتنا خرچ کر رہا ہے۔



رپورٹوں سے ان چیزوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں گی جن کا والدین بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، جیسے آرٹس میں شرکت کرنے کے لیے کلاس سائز یا طلبہ کے لیے مواقع۔



نئی عوامی رپورٹوں میں طالب علم کے امتحان کے اسکور، سند یافتگی کی شرح اور اسکول، اضلاع اور ریاست کے حوالے سے دیگر نتائج کی بابت معلومات درج ہوں گی جو رازداری کے قوانین سے ہم آہنگ ہوں گی۔

اصلاح، اسکول اور نیو یارک اسٹیٹ محکمہ تعلیم (Education Department) اخراجات کو ایڈجسٹ کرنے میں اصلاح کی مدد کرنے یا طلبہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے نئے طریقے پیش کرنے کے لیے ان رپورٹوں میں درج معلومات کو استعمال کریں گے۔

